



National Council for
Occupational Safety & Health

ہدایات

گرم ماحولوں میں کام کے اثرات سے بچاؤ کے لیے ہدایات

1445-2024

تعارف

اس گائیڈ کا مقصد آجروں، منصوبوں، اور کارکنوں کو اعلیٰ درجہ حرارت میں کام کرنے سے متعلق صحت کے مسائل، روک تھام کے طریقوں اور ان مسائل کے وقوع پذیر ہوفے پر ان سے نمٹنے کے طریقے سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ مشاورتی (انجینئرنگ اور انتظامی) تجویز اور روک تھام کے اقدامات کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر آگاہی کے پیغامات فراہم کرتا ہے۔

یہ گائیڈ وزارت برائے انسانی وسائل کی جانب سے مورخہ 29/10/1442 کے وزارتی قرارداد نمبر 196086 کے ذریعہ جاری کردہ سورج کی روشنی اور گرمی کے دباؤ سے نمٹنے کے اثرات کی روک تھام کے لئے پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کے لئے طریقہ کار گائیڈ کے مطابق ہے۔ یہ طریقہ کار گائیڈ ان پڑ اور معلومات کے ذرائع کے طور پر مختلف متعلقہ عالمی تکنیکوں، بہترین طریقوں، حوالہ جات، اور معیارات پر انحصار کرتا ہے۔

دائہ کار

اس گائیڈ میں گرم ماحول میں کام کرنے سے متعلق پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کے بارے میں آگاہی اور مشاورتی پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ خطرات اور اثرات کی وضاحت کرتا ہے، گرم کام کے ماحول میں اور دھوپ کے نیچے، اور گرمی کے دباؤ سے دوچار کارکنوں کے لئے رینمائی اور تعلیمی آگاہی کے پروگراموں کو فعال کرتا ہے۔ گائیڈ تمام کام کی جگہوں پر حفاظتی پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کی ضروریات فراہم کرنے اور کام کی جگہ پر گرمی کے خطرات سے نمٹنے کے نتیجے میں ہوفے والی ہنگامی صورتحال کا جواب دینے کی ضرورت کی بھی سفارش کرتا ہے۔

شرائط و تعریفیں

ہیٹ کریمپس

گرمی کی بیماری کی معتدل ترین شکل، جس میں دردناک پتھوں میں درد اور شدید جسمانی مشقت کے دوران یا اس کے بعد بونے والی نزلہ زکام اور زیادہ درجہ حرارت والے علاقوں میں پسینہ آنا شامل ہے ۔

غشی

ہیٹ بیہوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص بلڈ پریشر میں کمی کی وجہ سے اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے اور ہوش کھو دیتا ہے ۔

حرارت کی حد

تھرمل کام کی حد گرمی کے تناؤ کا ایک اشارہ ہے اور مخصوص ماحولیاتی حالات (خشک بلب کا درجہ حرارت، گیلے بلب کا درجہ حرارت، تابکار درجہ حرارت، اور بہوا کی رفتار) میں کام کے دوران زیادہ سے زیادہ محفوظ شرح کی پیمائش کے طور پر کام کرتی ہے ۔ تھرمل حد کو کارکنوں کو مناسب مقدار میں پانی پینے اور ہائیڈریٹ رینے کی ترغیب دینے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جبکہ انہیں کام کے نظام الوقات کو منظم کرنے اور کام کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی تاکید کی گئی ہے ۔

خود رفتار کام

کام جو کارکنوں کو ماحولیاتی حالات کے مطابق اپنے کام کی شرح کو ایڈ جسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے ۔

موافقت

جسم کا گرمی کے مطابق ڈھلنے کا عمل ۔ کام کے تین دن سے بھی کم وقت میں موافقت ختم ہو سکتی ہے ۔ ایک مدت کے فاصلے کے بعد کام پر واپس آنے والے لوگوں کو دوبارہ موافقت کرنے کی ضرورت ہوگی ۔ موافقت جسم کو جلد کی سطح پر خون کو ری ڈائیریکٹ کرنے میں مدد کرتی ہے، دل کو زیادہ موثر بناتی ہے، اور نمک اور الیکٹرولائنز کے زیادہ منظم نقصان کے ساتھ زیادہ تیزی سے پسینہ آنا شروع کرتی ہے ۔

غیر موسمنی کارکن

یہ اصطلاح نئے کارکنوں یا ان لوگوں سے مراد ہے جو بیماری کی وجہ سے 14 دن سے زیادہ عرصہ سے کام سے باہر بیٹیں یا گرم کام کے علاقوں کے مقابلے میں آب و بہا کے زون میں ٹھنڈا چھوڑ دیتے ہیں ۔

روشنی

پلکا کام جسمانی مشقت کے بغیر کام کے طور پر بیان کیا جاتا ہے ۔ بلکہ کام سے وابستہ کام بیٹھنے، کھڑے بونے اور بازوؤں کی حرکت تک محدود ہیں ۔

شرائط و تعریفیں

بھاری ڈیوٹی

بھاری کام کو ایسے کام کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جس میں زیادہ جسمانی مشقت شامل ہوتی ہے، جیسے اٹھانا، چڑھنا، دمکیلنا، اور مخصوص کاموں کو انجام دینے کے لئے پورے جسم کا استعمال کرنا

بیرونی جائے عمل

ایک بیرونی کام کی جگہ یہ مراد ایک ایسا کام کا ماحول ہوتا ہے جو باہر واقع ہوتا ہے اور گھر کے اندر کی بجائے عناصر کے سامنے ہوتا ہے۔ اس قسم کی کام کی جگہ میں مختلف ترتیبات شامل ہوسکتی ہیں جیسے تعمیراتی مقامات، زرعی کھیت، باغات، یا کوئی اور مقام جہاں کام کی سرگرمیاں بنیادی طور پر باہر منعقد کی جاتی ہیں

اندرونی کام کی جگہیں

یہ بند کام کے علاقے ہیں جو مناسب درجہ حرارت کو برقرار رکھتے ہیں، سرد علاقوں میں 20°C سے نیچے نہیں آتے ہیں، گرم علاقوں میں کولنگ کی سہولیات دستیاب ہیں، اور جگہ میں مناسب وینٹیلیشن فراہم کی جاتی ہے

حرارت

ایک جغرافیائی نقشہ جو گرمیوں کے موسم کے دوران زیادہ درجہ حرارت والے علاقوں کی وضاحت کرتا ہے۔

دنیا بھر میں گرمی کا بڑھنا

گلوبل وارمنگ کو دنیا بھر میں اوسط سطح کے درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ساتھ ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، میتھین اور دیگر گرین ہاؤس گیسون میں اضافے کے رجحان کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ گیسیں اجتماعی طور پر زمین کی فضا کو گرم کرنے کا کام کرتی ہیں

لہریں


ایک مخصوص علاقہ میں نمایاں طور پر زیادہ اور غیر معمولی درجہ حرارت کی خصوصیت کی مدت، جو مسلسل کئی دنوں تک جاری رہتی ہے

حرارت

موسم گرم کے موسم کے لئے جنرل اتھارٹی آف میٹرولوژی اینڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے تاریخی آب و بواکے اعداد و شمار مملکت بھر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی اوسط دکھاتے ہیں۔ مملکت کے تمام علاقوں میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کا عمومی رجحان ہے۔ تاپس، عام طور پر جنوب مغربی پہاڑی علاقوں اور تبوک خط کے ساحلوں میں اعتدال پسند سے ٹھنڈا درجہ حرارت پایا جاتا ہے، جیسا کہ ذیل کی تصویر میں بیان کیا گیا ہے۔

ذیل کی تصویر 1.1 موسم گرم کے موسم (جون - جولائی - اگست) کے لئے زمینی سطح سے 2 میٹر اوپر اوسط زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دکھاتی ہے۔

گرمی کے مہینوں کے دوران سعودی عرب کا بیٹ لود نقشہ:



پیٹ ویوز اور گلوبل وارمنگ

گرمی کی لمبے کے اعداد و شمار اور گلوبل وارمنگ کے اعداد و شمار مملکت میں انتہائی گرم موسم کی طویل مدت کی نشاندہی کرتے ہیں، جس کے ساتھ اکثر نمی کی سطح زیادہ ہوتی ہے۔ یہ شدید گرمی کے واقعات افراد، خاص طور پر کمزور کارکنوں جیسے ہلے سے موجود صحت کے حالات، دائمی بیماریوں، یا بزرگوں کے لئے صحت کے ایسی خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ گرمی کی لمبی زراعت، بنیادی ڈھانچے اور مجموعی طور پر ماحمول پر بھی نقصان دہ اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔

ذیل کے جدول میں موجود اعداد و شمار کے جائزے اور متعدد عالمی تجربیات کی بنیاد پر جنمہوں نے کلارکنوں کو ان کے ممالک میں سب سے زیادہ گرمی سے متاثرہ جغرافیائی مقامات دکھانے کے لئے آب و بواکے حالات کے لئے گرمی کے نقشہ بنائے ہیں، اور سورج کے نیچے کام کی ممانعت کی مدت کے دوران مملکت کے مختلف جغرافیائی علاقوں میں آب و بوا کے اختلافات پر غور کرتے ہوئے، مملکت کے لئے گرمی کے نقشہ کو شکل 1.1 میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ نقشہ گرمیوں کے دوران ان کے معتمد موسم کی وجہ سے جنوب مغربی علاقے (عسیر علاقہ) اور تبوک خط کے ساحلوں (شمال میں حقل شہر سے جنوب میں الوج شہر تک) کے علاوہ، سب سے زیادہ گرم لمبزوں کے لئے حساس مدد علاقوں کو اجاگر کرنے ہیں۔ تاپس، تہامہ جیسے بہت سے اشنکثبندی علاقوں میں، درجہ حرارت سال بھر زیادہ رہ سکتا ہے، باقاعدگی سے اوسطاً 30°C سے زیادہ اور 40°C سے زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ جیسا کہ ٹیبل 1.1 میں دکھایا گیا ہے۔

گرمی نقشہ

جدول 1.1 میں استیشن کے نام کے مطابق ان کے طول بلد، طول بلد، بلندی اور اوسط زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت کے ساتھ موسمی استیشنوں کی فہرست دی گئی ہے۔

نمبر	استیشن	خط العرض	طول البلد	بلندی	زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت °C	کم از کم درجہ حرارت °C
1	ابها	18,23	42.66	2096	30.08	16,21
2	خميس مشيط	18,29	40.8	2057	34,49	21.91
3	الباحة	20,29	40,46	1653	31,31	17,18
4	طائف	21,48	40,55	1455	35,05	21.93
5	نجران	17,61	44,41	1217	38,39	22.95
6	بیشہ	19,99	42,61	1182	38,97	23.06
7	حائل	27,44	41,69	972	38,04	22.15
8	طريف	31,68	38,73	846	35,20	19,23
9	تبوك	28,37	36,6	800	37,55	21.88
10	شرورة	17,47	47,12	740	41,94	25,22
11	الجوف	29,78	40,10	668	38,27	22.97
12	القصيم	26,30	43,77	646	41,94	24.76
13	المدينه	24,54	39,70	636	42,30	28.28
14	رياض	24,92	46,72	614	42,02	25.02
15	عرعر	30,90	41,14	544	39,57	23.47
16	القرىات	31,40	37,28	507	37,02	18.42
17	رفاء	29,62	43,49	499	40,91	23,37
18	القيصومه	28,33	46,12	362	42,92	26.54
19	مكة	21,43	39,79	249	42,96	28.89
20	الاحساء	25,30	49,49	181	43,99	27.31
21	الوجه	26,20	36,47	21	33,46	24,25
22	ظهران	26,26	50,16	21	37,02	18.42
23	جده	21,71	39,18	16	38,25	26.07
24	حفر الباطن	24,14	34,06	10	31,79	25.80
25	جازان	16,90	42,58	6	38,07	29.32

اعلیٰ درجہ حرارت اور براہ راست سورج کی روشنی میں کام کرنے سے وابستہ صحت کے اثرات:

انسانی جسم بیرونی عوامل جیسے ماحولیاتی حرارت یا میٹابولک عمل سے پیدا ہوئے یا اندرونی ذرائع سے حرارت حاصل کرسکتا ہے۔ معمول سے زیادہ درجہ حرارت کی تیزی سے نمائش جسم کے گرمی کے ضابطے کے طریقہ کار کو تیزی سے کمزور کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے گرمی سے متعلق مختلف بیماریاں جیسے گرمی کا درد، گرمی کا دباؤ، پیٹ اسٹروک، اور ہیاں تک کہ شدید معاملات میں موت بھی پوسکتی ہے۔

گرمی سے منسلک اموات یا بازیافتیں اسی دن بھی تیزی سے پوسکتی ہیں، یا تاخیر کے اثرات کے ساتھ ظاہر پوسکتی ہیں، بعض اوقات دن بعد ظاہر پوتی ہیں، خاص طور پر گرمی کی لہروں کے ابتدائی مراحل کے دوران کمزور افراد کے لئے خطرات کو بڑھا دیتی ہیں۔

یہاں تک کہ موسمی اوسط درجہ حرارت سے معمولی انحراف اکثر بیماری کی بڑھتی پوئی شرح اور پیشہ ورانہ اموات سے منسلک ہوئے ہیں۔ شدید گرمی دل کی بیماریوں، سانس کے مسائل، گردے اور اعصابی عوارض، ذیابیطس سے متعلق حالات، اور بائی بلڈ پریشر جیسے دائمی حالات کو خراب کر سکتی ہے۔

یہ اعلیٰ درجہ حرارت اور براہ راست سورج کی روشنی میں کام کرنے سے متعلق کارکنوں کو درپیش صحت کے مسائل ہیں۔

اسٹروک

حرارت کی تہکن

پیٹ کریمپس

حرارت

اعلیٰ درجہ حرارت اور براہ راست سورج کی روشنی میں کام کرنے سے منسلک پیٹ اسٹروک کی علامات اور علامات



ضرورت سے زیادہ پسینہ آنا، لال پونا، اور جلد کی خشکی


غشی

پریشانی


بہت زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گرینڈ سے زیادہ

تشنج

اعلیٰ درجہ حرارت اور براہ راست سورج کی روشنی میں کام کرنے سے منسلک گرمی کی تھکاوٹ کی علامات اور علامات میں شامل ہیں



متلی یا الٹی



سردرد



چکر آنا




آنکھ کی جلن



اختلاج قلب
38 ڈگری سے زیادہ
3.5 خار



بہت زیادہ پسینہ آنا
والی جلد



ٹھنڈی اور کلیم




عمومی کمزوری



پیاس


اعلیٰ درجہ حرارت اور سورج کی روشنی میں کام کے ساتھ گرمی سے متعلق دوروں کی علامات اور علامات



پٹھوں کا کھچاؤ

درد

اعلیٰ درجہ حرارت اور سورج کی روشنی کے نیچے کام کے ساتھ گرمی کے دانے کی علامات اور علامات



سرخ پیچ یا صاف چھالا اکثر گردن، اوپری سینہ اور جلد کے پرتون پر خارش کے ساتھ ظاہر
پوتے ہیں -

اگر کوئی کارکن گرمی کی تھکاوٹ / گرمی کے دباؤ سے دوچار ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے اقدامات

اگر کوئی کارکن گرمی کی تھکاوٹ / گرمی کے دباؤ سے دوچار ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے اقدامات:

1. کام پر سپروائزر سے رابطہ کریں اور طبی مدد کی درخواست کریں -
2. شخص کو مسلسل نگرانی کے ساتھ آرام کئے سایہ دار اور ٹھنڈے علاقے میں منتقل کریں -
3. اس شخص کو ٹھنڈا پانی پیش کریں جب تک کہ وہ بوش میں ہوں اور قہقہے نہ ہو -
4. اس شخص کو اپنے کپڑے اتارنے اور ڈھیلے کرنے میں مدد کریں -
5. ٹھنڈے کمپریسز اور اس پیک کو رانوں اور انڈر آرمز پر لگا کر، یا اپنے کپڑوں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر ٹھنڈا کرنے اور پوادار کرنے میں مدد کریں -
6. اس شخص کے ساتھ اس وقت تک کہ ان کی حالت بہتر نہ ہو جائے یا کارکن کو طبی نگہداشت کی سہولت یا طبی تشخیص یا علاج کے لئے پنگامی کمرے میں منتقل نہ کیا جائے اگر علامات خراب ہو جائیں یا بہتر نہ ہوں -
7. کارکن کو اسی دن کام پر واپس نہیں آنا چاہئے، چاہے ان کی حالت بہتر ہو۔
8. تھکاوٹ سے صحت یا بونے کے بعد کارکن پر آب و بواکے اصول کا اطلاق کریں -

اگر کوئی کارکن گرمی کے درد سے دوچار ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے اقدامات:

1. کارکن کو سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ پر آرام دین -
2. اگر الیکٹرولائٹس دستیاب نہ ہوں تو کارکن کو الیکٹرولائٹ مشروبات یا پانی زبانی طور پر پینا چاہئے -
3. اس شخص پر پانی ڈالیں یا اسے نلی سے چھڑکیں -
4. اس شخص کو گیلے کپڑے میں لپیٹیں اور ان کی طرف پنکھا رکھیں -
5. کارکن کو سخت کام پر واپس جانے کی اجازت دینے سے پہلے کچھ گھنٹے انتظار کریں -
6. اگر کارکن کی حالت بہتر نہ ہو تو پنگامی طبی نگہداشت حاصل کریں -

اگر کوئی کارکن گرمی سے متاثر ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے کے اقدامات:

1. جہاں ممکن ہو کام کے ماحول کو ٹھنڈا اور کم مرطوب بنانے کی کوشش کریں -
2. متاثرہ جگہ کو مکمل طور پر خشک رکھیں -
3. برف کو براہ راست دانے والا علاقہ پر لگانے سے گریز کریں کیونکہ اس سے سردی جل سکتی ہے -

کام کی جگہ پر یا ہنگامی طبی امدادکے لئے ہنگامی صورتحال کی صورت میں،
اپنے قریب ترین ایمرجنسی نمبر پر کال کریں یا سعودی ریڈ کریسنٹ آپریشنز کے لئے
997 ڈائل کریں -

ڈبلیو میں ہنگامی حالات کی صورت میں ہم اس بات پر زور دینا چاہیں گے کہ گرمی کا تناؤ
ایک صحت کی حالت ہے جس کے نتیجے میں جسم مختلف اندرونی اور بیرونی عوامل کی
وجہ سے غیر صحت مند اعلیٰ درجہ حرارت سے نمٹنے میں ناکام رہتا ہے۔ لہذا، اندرونی اور
بیرونی دونوں عوامل کو کنٹرول کرنے سے گرمی کے تناؤ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کام کی جگہ
یا ہنگامی طبی امداد کے لئے، اپنے قریب ترین ایمرجنسی نمبر پر کال کریں یا سعودی ریڈ
کریسنٹ آپریشنز کے لئے 997 ڈائل کریں۔

نئے کارکنوں کو گرم ماحول اور تربیت کے طریقوں کے مطابق ڈھالنا

موافقت سے مراد فائدہ مند جسمانی موافقت ہے جو گرم ماحول میں بار بار نمائش کے ساتھ پوتی ہے۔ اس موافقت میں شامل ہیں:

اضافی پسینہ

- کام کے دوران نمکیات کو دوبارہ بھنٹے کے لیے الیکٹرولائٹ مشروبات پینے کی سفارشات کے ساتھ پسینے میں پسینہ آنا، پسینے کے اخراج میں اضافہ، اور پسینے میں نمک کی کمی کو کم کرنا

مستحکم گردش

- جسمانی صلاحیت جسمانی صلاحیت پر کم سے کم اثر کے ساتھ ایک خاص بنیادی درجہ حرارت پر جلد میں خون کرنے ہاؤ کو بڑھانے کے لئے کم بنیادی درجہ حرارت اور مؤثر دل کی شرح کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت کو یقینی بناتی ہے۔

موافقت کا شیدول

کارکنوں کو موافق بنانے کے لئے، گرم ماحولیاتی حالات میں ان کی نمائش کا وقت بتدرج 7-14 دنوں میں بڑھایا جا سکتا ہے۔ نئے کارکنوں کو ان کارکنوں کے مقابلے میں موافقت کے لئے زیادہ وقت کی ضرورت بوگی جو ہلے نے نقاب پوچکے ہیں۔ نئے کارکنوں کے لئے، نمائش ہلے دن 20٪ سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے، جس میں پر اضافی دن 20٪ سے زیادہ اضافہ نہیں پونا چاہئے۔

تجربہ کار کارکنوں کے لئے، نمائش ہلے دن 50٪، دوسرے دن 60٪، تیسرا دن 80٪، اور چوتھے دن 100٪ سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔

مزید برآں، پر کارکن کی موافقت کی سطح ان کی بنیادی جسمانی فتنس اور مجموعی طور پر گرمی کے تناؤ پر منحصر ہے۔

موافقت کو برقرار رکھنا

کلکن اپنی آب و پوا کو برقرار رکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ چند دنوں کے لئے کام سے دور ہوں، جیسے کہ اختتام ہفتہ کے دوران - تاپس، اگر ایک ہفتے یا اس سے زیادہ عرصے تک غیر حاضر رہتے ہیں تو، فائدہ مند موافقت میں نمایاں نقصان پوسکتا ہے، جس سے گرمی سے متعلق بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور گرم ماحول میں بتدرج دوبارہ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پوتی ہے۔

درجہ حرارت کے اشارے منتخب کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا معیار

مندرجہ ذیل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ اشارے ہیں:

کام کے ماحول میں کام کے درجہ حرارت کو محدود کرنا -
بیرونی درجہ حرارت کے اشارے -

مذکورہ بالا اشارے سعودی عرب کی طرح کے ماحول میں ان کے اطلاق کی بنیاد پر منتخب کیے گئے ہیں - پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کی قومی کونسل زیادہ سے زیادہ کام کرنے والے درجہ حرارت کے اشارے کا استعمال کرنے کی سفارش کرتی ہے، خاص طور پر انڈور اور آؤٹ ڈور کام کے ماحول میں مختلف موسمی حالات جیسے نمی، بوا کی رفتار، اور خشک علاقوں میں اعلیٰ درجہ حرارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے -

اندرونی اور بیرونی کام کے ماحول میں حرارت کے تناؤ کی حدود کا اشارہ

حرارت کے تناؤ کی حدود کا اشارے کب استعمال کریں؟

گرمی کے تناؤ کی حد کا اشارے خشک علاقوں میں مختلف موسمی حالات جیسے نمی، بوا کی رفتار، اور اعلیٰ درجہ حرارت کی نمائش کے دوران اندرونی اور بیرونی کام کے ماحول میں استعمال کیا جاتا ہے -

حرارت کے تناؤ کی حدود کے اشارے کا حساب لگانا
گرمی کے تناؤ کی حد کے اشارے کا حساب لگائے وقت، مندرجہ ذیل پیمائشوں کو مدنظر رکھا جانا
چاہئے:

- خشک بلب کا درجہ حرارت (ماحول کا بوا کا درجہ حرارت) (C°)

- گیلے بلب کا درجہ حرارت (بخارات کی نمی) (C°)

- سیاہ گلوب درجہ حرارت (تابناک درجہ حرارت) (C°)

(S/m) رفتار

ان تمام پیمائشوں کو لینے اور زیادہ کام کرنے کے درجہ حرارت کا خود بخود حساب لگانے کے لئے آلات دستیاب ہیں - ایسے متبادل آلات بھی ہیں جنہیں پیمائش لینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور پھر زیادہ سے زیادہ قابل اجازت ورکنگ درجہ حرارت کا حساب لگانے کے لئے انہیں الیکٹرانک کیلکولیٹر میں داخل کیا جا سکتا ہے -

3.5 upang makalkula ang maksimum na pinapayagang temperatura sa pagtatrabaho.

انتظامی اور انجینئرنگ کنٹرولز

کام کے علاقوں میں درجہ حرارت کی پیمائش کی حد : حفاظتی انجینئرنگ اور انتظامی اقدامات

ضرورت کے مطابق پینے کے پانی کی مقدار کے لئے ثامن تیبل/کھنثے	کام سے ایک منٹ کے آرام کے لئے تیبل	طریقہ کار	3 علاقوں
روشنی 600 ملی لیٹر - 1 لیٹر / گھنٹہ	یہ علاقہ تمام جاری کام کے لیے DIY محفوظ ہے	Walang pagbabawal sa bilis ng self-work para sa mga sinanay na manggagawa na umiinom ng maraming tubig	کم خطرہ غیر محدود علاقہ < 220-140TWL
روشنی 1 لیٹر 1.2 / گھنٹہ	یہ علاقہ ہلکے مسلسل خود کام کرنے کے لیے محفوظ ہے	انتباہی زون ایسے حالات کی نشاندہی کرتا ہے جہاں ماحولیاتی حالات کی ضرورت بوتی ہے احتیاطی تدابیر گرمی کے دباؤ کو کم کرنے کے لئے عملی طور پر انجینئرنگ کے حفاظتی اقدامات کا اطلاق کریں مثال کے طور پر، سایہ دار علاقوں کو فراہم کرنا اور ان میں بہتری لانا ویٹیلیشن - کسی ایسے شخص کو کام کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے جو موافق نہیں ہے - کام کی قسم کے لیے مناسب سیالوں کو پینا یقینی بنائیں	درمیانی خطرے کا انتباہ Zon 115-140 TWL
بھاری ڈبیٹی 1.2 / گھنٹے سے زیادہ	مسلسل خود کام: 45 منٹ کام، 15 منٹ آرام	کے اطلاق پر زور (کاروباری چکر) مطلوبہ کسی کے لئے اکیلے کام کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے - کسی اور کو اپریٹ کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے ڈھال لیا گیا زیادہ خطرے والے علاقوں میں، پانی کی فراہمی اور شناخت پر زور دیا جانا چاہئے گرمی کے دباؤ کی علامات - ہر وقت سانٹ پر 2 لیٹر ذاتی پانی کی بوتل فراہم کریں	زیادہ خطرے کا علاقہ 115 TWL
/1.2hour سے زیادہ تمام قسم کے کام	بھاری کام: 45 منٹ کام، 15 منٹ آرام	کے اطلاق پر زور (کاروباری چکر) مطلوبہ کسی کے لئے اکیلے کام کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے - کسی اور کو اپریٹ کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے ڈھال لیا گیا زیادہ خطرے والے علاقوں میں، پانی کی فراہمی اور شناخت پر زور دیا جانا چاہئے گرمی کے دباؤ کی علامات - ہر وقت سانٹ پر 2 لیٹر ذاتی پانی کی بوتل فراہم کریں	کے اطلاق پر زور (کاروباری چکر) مطلوبہ کسی کے لئے اکیلے کام کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے - کسی اور کو اپریٹ کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے ڈھال لیا گیا زیادہ خطرے والے علاقوں میں، پانی کی فراہمی اور شناخت پر زور دیا جانا چاہئے گرمی کے دباؤ کی علامات - ہر وقت سانٹ پر 2 لیٹر ذاتی پانی کی بوتل فراہم کریں

بیرونی درجہ حرارت کا انڈیکس

درجہ حرارت کی پیمائش کی تعریف

درجہ حرارت کی پیمائش سے مراد قابل برداشت ہے زیادہ ماحول کے درجہ حرارت میں اضافے کا اندازہ لگانا، کارکنوں کو مختلف خطرات سے دوچار کرنا، ممکنہ طور پر مہلک نتائج کا باعث بننا ہے۔ کام کے ماحول میں حرارت کے ذرائع قدرتی ذرائع جیسے سورج کی روشنی یا صنعتی ذرائع جیسے بھیوں ہے گرمی، ویلڈنگ آپریشنز، یا دیگر آلات میں پیدا ہو سکتے ہیں۔

اہداف سامعین


ٹیبل نمبر 2 کے مطابق اعلیٰ درجہ حرارت والے بیرونی ماحول میں کام کرنے والے تمام افراد۔

بیرونی کام کے علاقے

باہر کام کرنے سے ملازمین کو موسم کے اہم اور ممکنہ طور پر خطرناک اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر خطرات کا صحیح اندازہ اور انتظام نہ کیا جائے تو یہ اثرات فوری یا طویل مدتی پوسکتے ہیں۔

درجہ حرارت کی پیمائش

ان اقدامات کے لئے استعمال ہونے والے آلات دستیاب ہیں، الیکٹرانک سیلے کرینالاگ آلات تک۔



الیکٹرانک تھرمومیٹر کی ایک مثال:

پارا تھرمومیٹر کی ایک مثال:

بیرونی درجہ حرارت انڈیکس کب استعمال کریں؟

درجہ حرارت کے گیج کو بیرونی کارکنوں کے لئے گرمی سے متعلق بیماریوں کے خطرات کا اندازہ لگانے، ضروری حفاظتی اقدامات کا تعین کرنے اور درجہ حرارت کی بنیاد پر ان اقدامات کو کب نافذ کرنا ہے اس کا فیصلہ کرنے میں مدد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ درجہ حرارت انڈیکس کی قدر میں اضافے کے ساتھ ہی گرمی سے متعلق بیماریوں کے خطرات کم سے کر انہائی زیادہ سے کر شدید تک پوسکتے ہیں۔ جیسا کہ انڈیکس کی قدر میں اضافہ پوتا ہے، کارکنوں کی حفاظت کے لئے اضافی احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔

درجہ حرارت کے اشاریہ کی اقدار کو خطرے کی چار سطحوں کے مطابق چار رینجز میں تقسیم کیا گیا ہے، جو درجہ حرارت کے اعداد و شمار کی بنیاد پر مناسب کارروائی میں معاون ہے۔ یہ ٹیبل 2 کے مطابق مختلف بیرونی کام کی جگہوں پر کارکنوں کے استعمال کے لئے تیار کیا گیا ہے۔

درجہ حرارتی اشاریہ	روک تھام کے اقدامات	لیول
32 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم	تمہرے سینٹی گریڈ کی بنیادی باتیں	چھوٹی انتباہ
32 ڈگری سینٹی گریڈ سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک	احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد اور اگابی میں اضافہ	اوسط
46 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ	کارکنوں کے تحفظ کے لیے اضافی احتیاطی تدابیر	زاند
46 ڈگری سینٹی گریڈ سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک	مزید سخت حفاظتی اقدامات	زیادہ خطرہ

ٹیبل 2۔

آجروں کو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے کسی بھی اشارے کا جواب دینا چاہیے، اس جواب کو کام کی جگہ کے دیگر خطرات سے نمٹنے کے لیے درکار اقدامات کی قسم سے پم آپنگ کرنا چاہیے، بشمول:

1. کارکنوں کو گرمی سے متعلق بیماریوں کو پہچاننے اور روکنے کی تربیت دینا۔
2. کام کی جگہ پر درجہ حرارت کی پیمائش کی روزانہ نگرانی اور کارکنوں کو ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لئے مطلع کرنا۔
3. جاری جائزے اور مشاہدات کے ساتھ روک تھام کے منصوبے پر عمل درآمد کرنا۔



حفظ اقدامات کا استعمال کرتے ہوئے جو مناسب حفاظتی منصوبے کے بارے میں کارکنوں کو مطلع کرنے کے لئے خطرے کی پر سطح پر کیے جانے چاہئیں مندرجہ ذیل پر توجہ دینی چاہئے:

خطرے کے اشارے کی سطح					روک تھام کی تجاویز
چھوٹا (انتباہ)	اوست	زاد	زیادہ خطرہ		
✓	✓	✓	✓		سپلانی فراہم کرنا (مناسب پانی، آرام کے علاقوں کی فراہمی، اور دیگر سپلانیز کو یقینی بنانا)
✓	✓	✓	✓		چھتری، ذاتی حفاظتی سامان، وینٹیلیشن کے پنکھے، پانی کے بخارات کے سپرے اور اینٹر فریشنرز، اور ایک پورٹبل تھرمومیٹر فراہم کرنا۔
✓	✓	✓	✓		ایمرجننسی پلاننگ اور رسپانس ایمرجننسی کے لیے سپروائزرز اور عملے کو تیار کریں
✓	✓	✓	✓		کارکنوں کے ساتھ ملنا آبستہ کام کے بوجہ میں اضافہ کرنا، جس سے کارکنوں کے گرمی کے مطابق ڈھلنے کے ساتھ ہی زیادہ کثرت سے آرام کی مدت کی اجازت مل جاتی ہے
	✓	✓	✓		ترمیم شدہ کام کے نظام الاوقات (کام کے نظام الاوقات میں ترمیم کو فعل کرنے کے لئے سسٹم بنائیں)
✓	✓	✓	✓		تربیت (گرمی سے متعلق بیماریوں اور روک تھام کے اقدامات کو تسلیم کرنے کے لئے کارکنوں کو تیار کرنا)
	✓	✓	✓		براہ راست مشاہدے اور نگرانی کا استعمال کرتے ہوئے جسمانی، بصری اور زبانی نگرانی گرمی سے متعلق بیماری کی علامات کی جانچ کرنے کے لئے جسمانی)

کام کی جگہ پر گرمی سے متعلق خطرات کے انتظام کے لئے عمومی اصول

مندرجہ ذیل تحفظات شامل ہیں (نوٹ کریں کہ یہ فہرست مزید بڑھا سکتی ہے):

- 1. خطرے کی تشخیص:** ممکنہ گرمی کے تناول کے خطرات کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک جامع خطرے کی تشخیص کریں - اس میں تھرمل ماحول کا جائزہ لینا شامل ہے۔
- 2. کام کی نوعیت:** میٹابولک بیٹ لود، اور ذاتی حفاظتی سامان کی قسم اور حالت کی بنیاد پر۔
- 3. سیٹ اسٹریس مینجمنٹ پلان:** خاص طور پر آپ کے کام کی جگہ اور انعام دیئے جانے والے کام کی قسم کے لئے ڈیزائن کردہ بیٹ اسٹریس مینجمنٹ پلان تیار کریں اور اس پر عمل درآمد کریں - اس منصوبے میں گرمی کے دباؤ کے حالات، کارکنوں کے لئے آب و بہاکے عمل، ہائیڈریشن کی پالیسیاں، اور گرمی سے متعلق عوارض کے لئے پنگامی طریقہ کار شامل ہونے چاہئیں۔
- 4. ماحولیاتی نگرانی:** ISO 7726 BS EN 7726 میں بیان کردہ مناسب ٹولز کا استعمال کرنے پر، بہاکے درجہ حرارت، نہی، بہاکی رفتار، اور تابناک گرمی سمیت ماحولیاتی عوامل کی باقاعدگی سے نگرانی کریں۔
- 5. کام کے ماحول کی ایڈجسٹمنٹ:** گرم حالات کی نمائش کو کم کرنے کے لئے جہاں ممکن ہو کام کے ماحول میں ترمیم کریں - اس میں وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشننگ، تابکار گرمی کے ذرائع سے بچاؤ، یا دن کے ٹھنڈے اوقات کے دوران شیڈولنگ کا کام شامل ہو سکتا ہے۔
- 6. ذاتی حفاظتی آلات (PPE) کا انتخاب اور استعمال:** اس بات کو یقینی بنائیں کہ فراہم کردہ کام کے لیے موزوں ہے اور تھرمل سکون کے ساتھ تحفظ کو متوازن کرتا ہے (ذاتی تشخیص کے لیے ضمیمه میں سیکشن 5.4 سے رجوع کریں)۔
- 7. پی ای کے اثرات پر غور:** اس بات کو تسلیم کریں کہ پی ای ہننے سے میٹابولک حرارت کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے اور جسم کی گرمی سے محروم ہونے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے - اس کے مطابق کام کے طریقوں کو ایڈجسٹ کریں، جیسے ٹھنڈے یا سایہ دار علاقوں میں زیادہ کثرت سے آرام کی مدت کو ضم کرنا (باقی سائیکلوں کے ضمیمه میں سیکشن 5.6 دیکھیں)۔
- 8. موافقت: آپسٹہ** آپسٹہ کارکنوں کو گرم ماحول، خاص طور پر وہ لوگ جو تھرمل یا غیر پارگھی ہنے پرے ہیں، ان کی گرمی کی رواداری میں اضافہ کرنے کے لیے موافقت دیتے ہیں۔
- 9. صحت کی حیثیت:** کسی بھی دائمی بیماری میں مبتلا کارکنوں کو اپنے معالج کو گرمی کے دباؤ سے پیشہ ورانہ نمائش کے بارے میں مطلع کرنا چاہئے اور سفارشات پر عمل کرنا چاہئے۔

ان اصولوں کا مقصد گرم ماحول سے متاثرہ کارکنوں کی حفاظت اور ہبہود کو یقینی بناتے ہوئے،
کام کی جگہ پر گرمی سے متعلق خطرات کا مؤثر طریقہ سے انتظام کرنا ہے

حوالہ جات

1. برطانوی معیاری ادارہ (1994)
2. برطانوی معیاری ادارہ (2000)
3. اینانڈر اے۔ اے۔ (1989). حرارتی دباؤ کے اثرات پر انسانی کارکردگی.
4. ایچ ایس ای (2013). کام کے مقامات، صحت، حفاظت اور ہبود.
5. ایچ ایس ای (2021). ایچ ایس ای - درجہ حرارت: بابروی کام کرنا.
6. آئی ایل او (2014). جسمانی خطرات - کام کرنے کی جگہ میں گرمی.
7. آئی ایل او (2019). گرمی سے بھرا پلانٹ پر کام کرنا.
8. آئی ایل او (2021). اقلیمی تبدیلی اور مزدوری: کام کرنے کے مزدوری پر حرارت کے اثرات.
9. جیلسٹرم، ٹی۔، لیمک، بی۔، لائنز، ایل۔، میٹر، این، اٹو، ایم۔، بیٹ، او، برگس، ڈی۔، فریبرگ، سی۔، کریمو، ٹی۔، ساگیٹ، سی۔ (2019)۔ گرم پلانٹ پر کام کرنا: حرارت کے دباؤ کے اثرات پر عملہ اور اچھی مزدوری کے اثرات.
10. کیلسٹرم، ٹی۔، اٹو، ایم۔، لیمک، بی۔، بیٹ، او، برگس، ڈی۔، فریبرگ، سی۔، لائنز، ایل۔ (2021)۔ اقلیمی تبدیلی اور مزدوری: کام کرنے کے مزدوری پر حرارت کے اثرات.
11. مکڈونلڈ، او۔ ایف۔، شینکس، این۔ ج۔، فراغ، ایل۔ (2008)۔ حرارتی دباؤ: خطرات کی بہتر حفاظت۔ پیشہ ور بچاو، 53(08).
12. قومی معیاری کیلئے قواعد، مزدوری کی آمادہ معیار، حرارت اور گرم ماحول کی زیر استعمال کرنے کے لیے۔ [آن لائن] مزدوری کی حفاظت و صحت انتظام۔
13. او ایچ ای اے (2021)۔ حرارت کے بیماری کی روک تھام۔ مزدوری کی حفاظت و صحت انتظام۔
14. پیکیو، ایم۔، اور وین پمارس، جے۔ سی۔ (2024)۔ بلند درجہ حرارت کے اثرات پر کام سے متعلق سرگرمیوں میں اثر۔ مزدوری معاشیات، 102509, 87
15. محفوظ کام آسٹریلیا (2021)۔ گرمی میں کام کرنے کے خطرات کا انتظام۔
16. انتظام ریڈ کریسنٹ اتھارٹی سعودی عرب (2014)۔ ہمی ایڈ کی بدایات، شہزادہ ناصف برائے ہمی ایڈ کے اصولات۔
17. وزارت منور
18. سعودی عرب عوامی صحت کی اتھارٹی



National Council for
Occupational Safety & Health

شکریہ۔